

سرائیکی زبان میں منظوم عشقیہ داستان ”ہیر رانجھا“ کے مؤلف تخلیق کار، ایک جائزہ

محمد ممتاز خان*

محمد عارف**

Abstract:

Heer Ranjha is one of the most popular folk tales of Pakistan. It is a tragic love story. It is found in several poetic narrations by many Panjabi and Saraiki poets. Saraiki is the language of the central Pakistan and this tragic love folk tales have been written by twenty three Saraiki poets. The Saraiki poets whose Heer Ranjha has gained popularity are Damoodar Das, Chragh Awan, Molvi Noorudin Maskeen, Ahmed Bhukhas Ghafil, Khadim Makhan Bbalvi, Shobha Shujahabadi, Syed Jalal Kaleem and Sheikh Ameer Majroo. In this article, the folk tale of Heer Ranjha by some prominent poets have been introduced with the help of authentic sources.

سرائیکی، وادی سندھ کی ایک قدیم زبان ہے جس میں بہت سارے علاقائی اور غیر علاقائی رومان نظم کیے گئے لیکن جو شہرت ”ہیر رانجھا“ اور ”سسی پنوں“ کو نصیب ہوئی وہ شاید کسی دوسری داستان کے حصے میں نہ آسکی۔ ”داستان ہیر رانجھا“ کے کردار عشق و محبت کی لازوال علامت کا روپ دھار چکے ہیں۔ سرائیکی زبان کے کئی شعراء نے اس رومان کو موضوعِ سخن بنایا۔ ڈاکٹر سجاد حیدر پرویز داستان ہیر رانجھا کی جغرافیائی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”خیال رہے کہ قصہ ”ہیر رانجھا“ خالص سرائیکی علاقے کا قصہ ہے۔ رنگ پور کھیڑا ضلع مظفر گڑھ کا حصہ ہے اور احمد پور سیال بھی ایک وقت میں اسی ڈویژن میں واقع تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ”ہیر رانجھا“ کے سب سے زیادہ منظوم قصے بھی ضلع مظفر گڑھ کے شعراء نے لکھے ہیں۔“ (۱)

سرائیکی زبان میں اب تک ہیر رانجھا کے چھوٹے بڑے ۲۳ قصے منظوم کیے جا چکے ہیں جن کی فہرست

* شعبہ سرائیکی، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان

** شعبہ سرائیکی، دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاول پور

درج ذیل ہے:

۱۔ دمودر داس دمودر	-	ہیر دمودر
۲۔ چراغ اعوان	-	چراغ اعوان دی ہیر
۳۔ علی حیدر ملتانی	-	(بطرزی حرنی)
۴۔ سید اکبر شاہ	-	(بطرزی حرنی)
۵۔ مولوی نور الدین مسکین	-	مکمل قصہ ہیر را نجھا
۶۔ مولوی عبید اللہ ملتانی	-	ہیر و جگی مولوی عبید اللہ (بطرزی حرنی)
۷۔ احمد بخش غافل	-	غافل دی ہیر
۸۔ خادم مکھن بیلوی	-	ہیر را نجھا بطرزی سیفل
۹۔ شیخ امیر مجروح	-	قصہ ہیر سیال و میاں را نجھا
۱۰۔ حمل خان لغاری	-	ہیرائیں سندس ماءائیں عزیزین وچ مء سوال جواب
۱۱۔ سید امیر حیدر میرن	-	مکمل قصہ ہیر را نجھا
۱۲۔ سو بھا شجاع آبادی	-	ہیر سو بھا
۱۳۔ سید جلال کلیم	-	قصہ ہیر را نجھا (قلمی)
۱۴۔ احمد دین جھنگوی	-	تھہء عشق (قلمی)
۱۵۔ نورانی گدائی	-	ہیر را نجھا (بطرزی نالک)
۱۶۔ غلام حیدر سودائی	-	ہیر سودائی (قلمی)
۱۷۔ حسرت ملتانی	-	ہیر را نجھا (بطرزی نالک)
۱۸۔ کریم بخش واصل	-	ہیر را نجھا (بطرزی نالک)
۱۹۔ غلام محمد جھمٹ	-	قصہ ہیر را نجھا
۲۰۔ ایاز سہروردی	-	در بحر طویل ”مختصر قصہ ہیر را نجھا درس صوفیانہ“
۲۱۔ غلام رسول انصاری	-	ہیر را نجھا (قلمی)
۲۲۔ محمد مٹھا	-	ہیر را نجھا (قلمی)
۲۳۔ روشن	-	قصہ ہیر را نجھا (قلمی)

ہیر را نجھا کے مذکورہ ۲۳ قصوں میں سے دمودر داس دمودر، چراغ اعوان، مولوی نور الدین مسکین، احمد بخش غافل، خادم مکھن بیلوی، سو بھا شجاع آبادی، سید جلال کلیم اور شیخ امیر مجروح کے قصے خاص طور پر قابل ذکر

سرائیکی زبان میں منظوم عشقیہ داستان ”ہیر رانجھا“ کے مؤلف تخلیق کار، ایک جائزہ ہیں جن کا تعارف اور عمومی تنقیدی جائزہ اس مقالے میں پیش کیا جا رہا ہے۔

۱۔ دمودر داس دمودر (۱۳۸۶ء-۱۵۶۸ء)

دمودر داس کی ذات اور اس کے عہد کے متعلق محققین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بابا گنگا سنگھ بیدی ہیر دمودر کے مقدمے میں لکھتے ہیں:

”دمودر ذات کا گھائی ہندو اور چنیوٹ کے علاقے ”ولہاراں“ کے رہنے والا تھا۔ اس کا مذہب ہندو تھا لیکن عملاً اس پر سکھ مت کی رنگت نمایاں نظر آتی ہے۔ پہلے یہ ”ولہاراں“ میں مقیم تھا لیکن وہاں سے سکونت ترک کر کے جھنگ آن آباد ہوا۔ اور یہاں پر دکان بنا ڈالی،“ (۲)

خود دمودر نے ہیر دمودر میں اپنے نام، ذات اور مقام کا پتہ دیتے ہوئے لکھا ہے۔

ناؤں دمودر ذات گھائی آیا سک سیالیں
اپنے من وچ مسلت کیتی، بیٹھ اتھائیں چالیں
وڑیا وُج چوچک دے شہرے جتھے سیال ابدالیں
آکھ دمودر خوش ہوئیں ویکھ اُنہاں دیاں چالیں (۳)

محمد آصف خاں، بابا گنگا سنگھ بیدی کے اس بیان سے متفق نظر نہیں آتے کہ دمودر چنیوٹ کے علاقے ولہاراں کا رہنے والا تھا کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق چنیوٹ میں ولہاراں نام کی کسی بستی کے آثار نہیں ملے۔ البتہ انہوں نے جھنگ سے شاہ جوناں روڈ پر موجود ”سلطان پور“، (۴) نام کی بستی کی نشاندہی کر کے بتایا ہے کہ یہاں پر گھائی ذات کے ہندو آباد تھے۔ ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ، دمودر کا عہد ۱۳۸۶ء تا ۱۵۶۸ء مقرر کرتے ہیں۔ (۵) ڈاکٹر طاہر تونسوی نے دمودر داس کو اکبر اعظم کے زمانے (۱۵۳۹ء/ ۱۶۲۹ء) کا بتایا ہے۔ (۶) لیکن یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اکبر اعظم تو ۱۶۰۵ء میں فوت ہو گیا تھا۔ عذر اوقار کے مطابق:

”یہ ہندو شاعر بہلول لودھی کے عہد میں پیدا ہوا اور کبر کے عہد میں اس نے اس قصے کو نظمایا،“ (۷)

محمد اصغر سیال اپنے مقالے میں دمودر کے عہد کی مذکورہ بحث کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں:

”دمودر بہلول لودھی کے عہد میں پیدا ہوا لیکن اس نے اپنا قصہ ۹۸۳ھ تا ۹۹۷ھ کے درمیان لکھا۔ دمودر نے کافی بڑی عمر پائی اور یہ قصہ اس نے اپنے عمر کے آخری سالوں میں نظم کیا۔“ (۸)

کیفی جاپوری اپنی کتاب ”سرائیکی شاعری“ میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”سب سے پہلے یہ قصہ دمودر داس اُروڑہ سکنہ قصبہ جھنگ نے لکھا ہے۔ اُس نے یہ قصہ راجہ رام کھتری سکنہ بھیرہ سے سنا جو اس کا عینی شاہد تھا۔ دمودر اس داستان کو اکبر اعظم کے زمانے کی داستان بیان کرتا ہے۔ یہ گویا سرائیکی زبان کا پہلا نسخہ ہے۔“ (۹)

پنجاب زبان کے معروف محقق مولابخش کشتہ نے اپنی کتاب ”پنجاب شاعری دا تذکرہ“ میں ہیر دمودر کی زبان کے متعلق رائے دیتے ہوئے اسے لہندی قرار دیا ہے۔ اُن کے مطابق:

”بولی لہندی ہے“ فارسی اور ملتان کی لفظوں کی ملاوٹ زیادہ ہے،“ (۱۰)

عبدالغفور قریشی اپنی کتاب ”پنجابی ادب دی کہانی“ میں لکھتے ہیں۔

”بولی میں لہندی، ملتان کی سرانسیکی رنگ نمایاں ہے۔ عربی فارسی الفاظ کا اثر بھی زیادہ ہے،“ (۱۱)

محمد سرور ”پنجابی ادب“ میں لکھتے ہیں:

”دمودر نے ہیر را نجھا لہندی یعنی جھنگ اور ملتان کی ملی جلی زبان میں لکھی ہے،“ (۱۲)

دمودر کا قصہ پہلا ہونے کے ناطے بعد کے تمام لکھا ریوں پر کسی نہ کسی حوالے سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اثرات کہیں زیادہ تو کہیں کم دکھائی دیتے ہیں لیکن بنیادی کہانی ایک ہی ہے۔ اصغر علی سیال کے مطابق:

”دمودر نے ہیر را نجھا کا قصہ لکھ کر اور اُس پر ”آنکھوں دیکھا“ کی مہر لگا کر ایک تصور بنادی، اس تصویر میں بعد میں آنے والے شعراء اپنی اپنی پسند اور مرضی کے مطابق رنگ بھرتے رہے،“ (۱۳)

دمودر کا قصہ کل ۹۶۰ بندوں پر مشتمل ہے جن میں اکثر بند چار چار مصرعوں کے ہیں۔ قصے میں شاعرانہ ہنرمندی کم اور سادہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ دمودر نے اپنے قصے میں رانجھے کے والد کا نام معظم، ہیر کی والدہ کا نام کنڈی، ہیر کے خاوند کا نام صاحب اکھیڑا اور صاحب اکھیڑا کے والد کا نام علی کھیڑا بتایا ہے۔ جبکہ ہیر وارث شاہ میں رانجھے کے باپ کا نام موجو، ماں کا نام ملکی، سہتی کے بھائی کا نام سیدا کھیڑا اور سیدا کے والد کا نام اجو کھیڑا لکھا گیا ہے۔ دمودر ہیر رانجھے کو کوٹ قبولے سے تین میل کے فاصلے پر غائب ہوتے دکھاتا ہے جبکہ وارث شاہ نے ہیر کی موت کا سبب والدین کے ہاتھوں زہر پینا بتایا ہے۔ البتہ قبل اپنی ہیر کا اختتام دونوں کی مکہ معظمہ روانگی پر کرتا ہے۔

۲۔ چراغ اعوان (۱۶۷۹ء-۱۷۳۲ء)

کیفی جام پوری کے مطابق:

”کوہ سلیمان کے دامن میں درہ چاچڑ کے قریب سکھوں کے عہد کا بنا ہوا قلعہ ہڑنڈ ہے جسے ملتان کے حاکم دیوان ساون مل نے تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعہ کے قریب موضع کھیڑی کی ایک چھوٹی سے بستی ”میاں صاحب“ میں خواجہ محمد عاقل شائق و جوگی جیسی دو یگانہ روزگار بہتیاں پیدا ہوئیں جن کو اگر موافق ماحول میسر آ جاتا تو ان کے علمی کارناموں سے دنیا گونج اٹھتی۔

چراغ اعوان اسی بستی میں ۱۰۹۰ھ میں پیدا ہوا۔ ملتان اور بہاولپور کا پایادہ سفر کیا اور یہاں کہ مشائخ سے فیوض و برکات حاصل کیں۔ آپ کا انتقال ۱۱۴۵ھ میں ہوا۔ ہر سال چیت کی آخری جمعرات کو ان کا میلہ لگتا ہے جسے ”چراغ شاہ دامیلہ“ کہا جاتا ہے۔“ (۱۴)

چراغ اعوان پنجابی شاعر احمد قوی کا ہم عصر تھا۔ اس نے اپنا قصہ ”ہیر رانجھا“ احمد قوی سے ۱۷ سال بعد جبکہ قبل سے ۳۸ سال اور وارث شاہ سے ۵۹ سال پہلے تحریر کیا۔ چراغ نے اپنی مثنوی ”ہیر رانجھا“ ۱۱۲۱ھ کو مکمل کی وہ قصہ کے آخر میں لکھتے ہیں:

پئی ہیر تمام تھئی تاریخ پنجم شعبانی
یارہاں سئے سن سال اکویوں سن مومن دل جانی (۱۵)

اس مثنوی کا ایک نسخہ ابوالعلائی سٹیم پریس آگرہ سے شمس الدین، منور الدین، تاجران کتب ملتان نے ۱۳۰۱ھ میں شائع کروایا۔ یہ نسخت میں ہے اور اس کا عکسی نسخہ مقالہ نگار کے پاس موجود ہے۔ کیفی جام پوری نے عین الحق فرید کوٹی کی لائبریری میں موجود ایک نسخے کی نشاندہی کی ہے جو عربی رسم الخط میں ہے اور اسے ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے تاجران کتب حافظ اللہ ڈٹو خدا بخش نے اینگلو سٹیم پریس، لاہور سے شائع کروایا۔ نسخہ کا کاتب کیونکہ سرائیکی زبان سے مکمل طور پر واقف نہیں تھا اس لیے اس میں بہت زیادہ غلطیاں موجود ہیں۔ کیفی جام پوری نے ان دونوں نسخوں کو سامنے رکھ کر ایک معتبر نسخہ تیار کیا جو تاحال غیر مطبوعہ حالت میں ہے۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی نے اس مثنوی کی ترتیب و تہذیب کر کے ایک ضخیم مقدمے کے ساتھ اسے سرائیکی ادبی بورڈ ملتان سے شائع کروا دیا ہے۔ کیفی جام پوری کے مطابق:

”معلوم ہوتا ہے چراغ نے یہ قصہ کسی داستان گو سے سن کر نظم کیا ہے۔
قصے کے دو مشہور کردار کید و لنگ اور سہتی کا ذکر تک نہیں۔“ (۱۶)

چراغ اعوان نے شاعرانہ صداقت اور رنگ آمیزی کے بل بوتے پر اس قصے میں منظر نگاری کے وہ رنگ جمائے ہیں کہ قاری خود کو قصے کا ایک کردار محسوس کرنے لگتا ہے۔ قصے میں بیان ہوئے رسم و رواج اور ثقافتی مناظر متاثر کن اور دل فریب ہیں:

گونان گوں عجائب کھانڑیں رکھدے آن بٹھارے
ست پڑ نان، فلودے لچیاں خوش اطوارے
تلیے ماس اُتے نئی بخی نان فروش ہزارے
خوشبو ناک کباب تھئے، بیتاب شتاب تیارے (۱۷)

ڈاکٹر نصر اللہ خاں ناصر کے مطابق:

”چراغ اعوان کی ہیر آج سے تین صدیوں پہلے کے سرائیکی تمدن کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔
چراغ نے اپنے قصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ شادی بیاہ کی رسموں، لباس، زیورات،
کھیل، جھمر اور دوسری ویسی رسموں ریتوں کی بھرپور عکاسی کی ہے۔“ (۱۸)

چراغ کی ہیر میں دمودر کی طرح رانجھے کے باپ کا نام بھی معظم ہے۔ قصے میں رانجھے کے گھر چھوڑنے کی اصل وجہ بھابیوں کے طعنے بتائی گئی ہے اسی طرح جوگی کا نام جگ ناتھ، ہیر کے خاوند کا نام ہلاول کھیڑا جبکہ رانجھے اور ہیر کا ملاپ کروانے والی عورت کا نام ”میاں“ درج کیا گیا ہے۔ قصے کے منظر نامے میں جب کھیڑوں کی خواتین مقامی ناچ ”جھمر“ ڈالنے کے لیے پہنچتی ہیں تو ان کے حسن و جمال، زیورات اور ملبوسات کا منظر چراغ اعوان نے کچھ اس انداز میں بیان کیا:

کھڑیاں شوق کھینڈن دے کنوں آکھڑیاں بن پریاں
چوڑ مکھوڑے پہنچیاں، گجرے دست کنگن، بانہہ جڑیاں
پار چندن چکار کرن سنگار وڈے پنچ لڑیاں
ٹھم ٹھم قدم ٹکاؤن سونیاں دست اُلارن دھڑیاں
سوہے لال، سلار ہے بوچھن، پاند کناری زریاں (۱۹)

چراغ اعوان کی اس مثنوی میں بہت سے دیگر قصوں کے کرداروں سے ہٹ کر کرداروں کا ہونا ایک الگ تاریخ ہے۔ تاہم اس قصے کی تاریخ اور اسی نوع کے دیگر منظوم قصوں میں درج کرداروں کے ناموں کے برخلاف اسماء کا اندراج قصے کے نئے پن کے کسی تجربے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ من جملہ اس قصے کی زبان شگفتہ، شستہ، مصرعے برجستہ اور عوام الاستعمال ہونے کی وجہ سے قبول عام ہونے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔
نور الدین مسکین (۱۸۳۵ء-۱۹۱۵ء)

سرائیکی محقق میر حسان الحیدری نور الدین مسکین کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں:

”مولانا نور الدین ضلع مظفر گڑھ کے ایک عظیم خاندان ”اُوڈھانہ“ میں اپنے وقت کے جید عالم اور درویش صفت بزرگ حافظ محمد عمر کے گھر ۱۸۳۵ء کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ ایک جید عالم، مفتی دین اور اپنے وقت کے مقبول بزرگ تھے۔ حضرت خواجہ غلام فریدان کے ہم عصر تھے اور ان سے مسکین کے گھرے مراسم اور قریبی روابط تھے۔ مسکین نے سب سے پہلے مولوی لطف علی کی مشہوری مثنوی سیف الملوک کی بحر میں ”سسی پنوں“ کی داستان منظوم کی جو ان کی شاعرانہ خوبیوں کو اجاگر کرنے میں خشت اول ثابت ہوئی۔ یہ داستان انہوں نے ۱۸۹۵ء/۱۳۱۳ھ میں مکمل کی اس کے بعد قصہ ہیرارنجھا کو نظم کا جامہ پہنایا جس نے انکی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔“ (۲۰)

کیفی جام پوری کے مطابق:

”مولوی نور الدین مسکین سنہ روہیلاں والی ضلع مظفر گڑھ نے ”ہیرورانجھا“ کے نام سے ایک

سرائیکی زبان میں منظوم عشقیہ داستان ”ہیر رانجھا“ کے مؤلف تخلیق کار، ایک جائزہ

مثنوی چودھویں صدی کے ربع اول میں لکھی جواب تک کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ (۲۱)

نور الدین مسکین نے اپنی مثنوی خالصتاً مذہبی اور اخلاقی نقطہ نظر کے تحت تصنیف کی۔ وہ خود اپنی مثنوی میں فارسی عنوان ”غرض اصلی ازیں قصہ حقیقتاً بیان المعراج نبوی از ست مجازاً عشق۔ ہیر و رانجھا“ کے تحت لکھتے ہیں۔

سنو یارو میرا مطلوب دل دا حقیقت ہیر توں اسلوب دل دا
قصہ معراج دا سن ہوش ڈے کر رنجیٹے ہیر دے کوں پوش دے کر
میرا مقصود رانجن مصطفیٰ ہے تے جوگی لامکانی خود خدا ہے (۲۲)

نور الدین مسکین کا قصہ ہیر رانجھا حقیقت اور مجاز کا حسین امتزاج ہے۔ وہ جہاں بھی ہیر رانجھا کے مجازی عشق کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں وہاں موقع محل کے مطابق سیرت نبویؐ کا کوئی تاریخی حوالہ بھی منظوم کر دیتے ہیں۔ مسکین کے قصہ میں دوسرے قصہ نویسوں سے ہٹ کر رانجھے کا اصلی نام ”رانجن“ بتایا گیا ہے، وہ خود لکھتے ہیں:

رکھوئے شوق توں رانجن اوندنا نام
جو ہا وچ حسن و خوبی دے دلا رام (۲۳)

مسکین کے قصے کا اختتام بھی دوسرے سرائیکی قصہ کاروں سے کچھ مختلف ہے جب رانجھا ہیر کو اپنے ساتھ لے کر فرار ہوتا ہے تو کھیڑے اسے راستے میں جالیتے ہیں اور قاضی کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ قاضی مقدمے کا فیصلہ کھیڑوں کے حق میں دے کر ہیر ان کے حوالے کر دیتا ہے تو رانجھے کی بددعا سے شہر کو آگ لگ جاتی ہے۔ مجبوراً قاضی اپنے فیصلے کو تبدیل کر کے ہیر رانجھے کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ دونوں بیت اللہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں:

کرن پیڈے تے کدھن ول نہ سہائی
ڈوہیں ہوئے طرف بیت اللہ دے راہی (۲۴)

۳۔ سید جلال کلیم (۱۸۳۶ء)

سید جلال کلیم کے حالات زندگی کتب تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں۔ ڈاکٹر مہر عبدالحق نے تو اپنی تحقیق میں ان کا ذکر تک بھی شامل نہیں کیا ہے۔ البتہ میر حسان الحمیدی اور ڈاکٹر نصر اللہ خاں ناصر نے ان کو مختصراً شامل ذکر کیا ہے۔ میر صاحب کے مطابق:

”سید جلال الدین شاہ کلیم حسینی البخاری بدلی ضلع رحیم یار خاں کے ایک سادات گھرانے میں ۱۸۳۶ء/۱۲۶۳ھ کے قریب پیدا ہوئے۔ علوم ظاہری کی تکمیل والد ماجد سے اور علوم باطنی کا اکتساب حضرت سید مومن شاہ صاحب یگانہ (ضلع رحیم یار خاں) سے حاصل کیا۔ خواجگان کوٹ مٹھن سے بھی حد درجہ عقیدت تھی۔ فطری طور پر غزل گو تھے۔ اپنے والد گرامی کی فرمائش پر ”سی پنوں“ کا مشہور واقعہ نظم کیا۔“ (۲۵)

کلیم کا قصہ ”ہیرو رانجھا“ تاحال غیر مطبوعہ حالت میں ہے۔ راقم الحروف کو اس کا عکسی نسخہ دیکھنے کا اتفاق ہوا جو ضلع رحیم یار خاں کی تحصیل لیاقت پور کے نواحی علاقے ”الہ آباد“ کے معروف محقق حبیب اللہ ایسی کی ذاتی لائبریری میں موجود ہے۔ شاعر نے اپنے قصہ کی ابتداء حمد، نعت، صحابہ کرامؓ، امامینؑ کی شان، حضرت غوث الاعظم جیلانیؒ کی منقبت، تعریف خواجگان کوٹ مٹھن شریف اور ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان عباسی کی مداح سرائی سے کی ہے۔ قصے کی ابتداء میں ہیر سیال چوچک کے گھر بیٹی کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں:

وہ دختر خوش اختر جائی نازو نویں انگوری
نادر نویں بہار کھلی خوش رنگ عجب پھلتوری
تھیاں خوشیاں شدیاں نے وجدے موج ڈتی مسروری
محفل جوڑ منگائی چوچک دُنگ شراب انگوری (۲۶)

کلیم کے قصہ میں رانجھا کا نام دھیرن، اس کے باپ کا نام موجود اور رانجھا کے بھائیوں کی تعداد پانچ جبکہ رانجھا کو چار بھائیوں کا اکلوتا سوتیل بھائی بتلایا گیا ہے۔ باپ کا اکلوتا چہیتا بیٹا ہونے کی وجہ سے چاروں سوتیلے بھائیوں کا رانجھے کے ساتھ سلوک برادران یوسف کا رنگ دھارنے لگتا ہے تو رانجھا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر رانجھے کی بھابھیاں اس کی بہت منت سماجت کرتی ہیں لیکن جب وہ ان کی ایک نہیں مانتا تو روانگی کے وقت یہ اسے اپنے زیورات کر دے دیتی ہیں۔ قصے میں ہیر کے خاوند کا نام علاول کھیڑا جبکہ علاول کے باپ کا نام کھیڑے خان بتایا گیا ہے۔ کلیم کے قصے پر چراغ اعوان کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ علاول کھیڑے کی برات کا جھنگ سیالاں آمد کا منظر ملاحظہ کریں:

کھیڑے خان صحن چوچک دے آ کر جج اُتاری
کھیڑیاں نال سیال سھے مل پٹھے جوڑ کچاہری
سبمین ساق سمن رُخ قامت سُر و صنوبر کڑیاں
کر سامان سیالیں کھیڑیاں آن جھمر وچ وڑیاں
سرخنی پان کجل سر موتی مانگھ سہاون دھڑیاں
دیم بنا دُھم دھام حُسن دے آن مقابل کھڑیاں (۲۷)

۴۔ اللہ بخش خادم (۱۸۶۰ء-۱۹۳۱ء)

مولوی حاجی اللہ بخش المعروف خادم مکھن بیلوی ساکن مکھن بیلہ تھانہ رہیلا نوالی ضلع مظفر گڑھ کی زندگی کے احوال تفصیلاً تو کہیں دستیاب نہیں ہو سکے۔ البتہ ڈاکٹر سجاد حیدر پرویز کے مطابق:

”ان کی تاریخ پیدائش ۱۸۶۰ء اور تاریخ وصال ۱۹۳۱ء ہے۔“ (۲۸)

سرائیکی زبان میں منظوم عشقیہ داستان ”ہیرا رانجھا“ کے مؤلف تخلیق کار، ایک جائزہ

کینی جام پوری نے ”سرائیکی شاعری“ میں ان سے اپنی ایک دو ملاقاتوں کا احوال درج کیا ہے۔ ان کی خادم بیلوی سے پہلی ملاقات ۱۹۲۸ء میں ایمرن کالج ملتان میں منعقدہ ایک بہار یہ مشاعرہ میں ہوئی جو ہر سال کالج کے پروفیسر اکبر منیر منعقد کراتے تھے۔ کینی جام پوری کے مطابق:

”حاجی اللہ بخش خادم کھن بیلہ ضلع مظفر گڑھ کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی عمر میں جلال پور پیر والا میں جا کر شیخ وقت حضرت حافظ فتح محمد سے ناظرہ قرآن مجید پڑھا اور درس نظامی کے فارسی نصاب کی تکمیل کی.... آخر میں انہوں نے شیعہ مسلک اختیار کر لیا اور اللہ بخش خادم سے خادم حسین خادم بن گئے لیکن کچھ کامیاب ذاکر ثابت نہ ہوئے۔ ایک دیہاتی تھیٹر ایکل کمپنی بنا کر گاؤں گاؤں گھومنے لگے آخر انہوں نے یہ کھیل خود ہی ختم کر دیا اور زندگی کے باقی دن خاموشی کے ساتھ گزار دیئے۔“ (۲۹)

خادم بیلوی نے اپنا قصہ ”ہیرا رانجھا جدید بطر سیفیل“ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے مولوی لطف علی کی مثنوی ”سیفیل النامہ“ کی طرز پر لکھا۔ قصہ کے مندرجات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کو سرائیکی زبان کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور پوربی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ قصہ کے تمام عنوانات فارسی زبان میں درج کئے گئے ہیں۔ قصہ میں جا بجا فارسی تراکیب موجود ہیں اور مصرعے کے مصرعے فارسی زبان میں تخلیق کیے گئے ہیں۔ کھیڑوں کی بستی سے ہیرا اپنی ایک ہمز عورت کے ہاتھ رانجھا کو جو پہلا خط لکھتی ہے وہ شاعر نے سرائیکی میں نظم کیا ہے۔ جبکہ ہیرا نے رانجھا کو جواباً جو خط لکھا اس کا متن مکمل فارسی زبان میں ہے:-

نمونہ کلام

شاہ حسن ذی جاہ معلیٰ مالک تخت ہزارا مدت مزید بعید شدہ تشدید شدہ ہموارا
کرد فراق ہلاک مرا غمناک دلم صد پارا رفتی عہد شکستی جاناں رشک یک رفتار (۳۰)

سرائیکی زبان میں لکھے ہیرا رانجھا کے ۲۳ قصوں میں سے یہ اپنی نوعیت کا واحد قصہ ہے جسے اپنی ضخامت، منفرد انداز بیان، ثقافت نگاری، کردار نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری اور صنائع بدائع کے دلکش استعمال کی وجہ سے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ سرائیکی وسیب میں جس طرح مولوی لطف علی کے سیفیل نامے کو زبانی طور حفظ کرنے کی روایت ملتی ہے بالکل اسی طرح خادم بیلوی کے اس قصے کے کچھ حافظ رحیم یار خان کے علاقے میں اب بھی مل جاتے ہیں۔

۵۔ ملک احمد بخش غافل (۱۸۷۰ء۔ ۱۹۶۰ء)

سرائیکی محقق فیض بلوچ کے مطابق:

”احمد بخش غافل قصہ گور مانی تحصیل کوٹ ادو میں ۱۸۷۰ء کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پرائمری سکول قصہ گور مانی سے حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے ڈیرہ غازی خان کے ایک

مکتب سکول میں داخل ہوئے.... شاعرانہ ذوق کے حامل تھے اور ۱۹۶۰ء میں ۹۰ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ (۳۱)

ملک احمد بخش گورایہ المعروف غافل گورمانی کی ”ہیر سیال غافل عرف سرائیکی ہیر رانجھا“ سوال و جواب کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اب تک ہیر سیال غافل کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ دارالاشاعت پنجاب آرٹ پریس سے شائع ہونے والے نسخے پر چھٹا ایڈیشن درج ہے۔ جبکہ قریشی بک ڈپولتان کی طرف سے شائع ہونے والے نسخے پر سن اشاعت ۱۳۳۶ھ لکھا ہوا ہے۔ اس قصے کے آخری بند میں سن تصنیف کے متعلق خود شاعر کا بیان ملاحظہ کریں:

تیرہاں سوتے چھتری بھجری دی تاریخ مشہور کرائی راہنداں
غافل اٹھدیں بہندیں ہوئیں کلمہ محمد پاک داستانِ راہنداں (۳۲)

کل ۲۴۶ بندوں پر مشتمل احمد بخش غافل کے قصہ میں فنی اعتبار سے پختگی کی کمی محسوس ہوتی جبکہ اس قصہ میں طباعت کی غلطیاں بھی کثرت سے موجود ہیں اور اس بات کا احساس خود شاعر کو بھی تھا جس کا اظہار انہوں نے قصے کے آخری بند میں کیا ہے:

میں شاعر ناہیں عالم ایویں سدا ہے سامنے لائی راہنداں
کم و بیش دالفظ معاف کرنا جو قافیہ ردیف ملائی راہنداں
ہُن شاعری نہیں یاد میکوں کھپدا ڈہنھ تے رات اجائی راہنداں
اپنا غریب خانہ گورمانی دے وچ وقت سفر دیوچ نبھائی راہنداں (۳۳)

قصہ میں رانجھے کا اصل نام دھیدو، اس کے والد کا نام موجو، ہیر کی والدہ کا نام ملائی اور اس کے خاوند کا نام نورنگ خان کھیڑا اور نورنگ کھیڑا کے والد کا نام اجو خان کھیڑا بتایا گیا ہے۔ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قصہ ہیر رانجھا کے روایتی ناموں اور مکامات کے لحاظ سے غافل کی ہیر اور دوسرے شعراء کے قصوں کے پلاٹ میں خاصہ فرق نظر آتا ہے۔ غافل کی ہیر میں رانجھا کے گھر چھوڑنے کی اصل وجہ تو بھائیوں اور بھابیوں سے ناراضگی ہی بتائی گئی ہے لیکن رانجھا گھر چھوڑنے کے بعد سیدھا جھنگ کے قریبی مقام ”پیپل ملاکنہ“ پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات ہیر کے والد چوچک سے ہوتی ہے۔ دوسرے قصہ نویسوں کی طرح اس قصہ میں نہ تو رانجھا دریا پار کرتا ہے اور نہ ہی دریا کنارے اُس کی ملاقات ”ہیر“ سے ہوتی ہے بلکہ پیپل ملاکنہ میں اُس کی رہائش کا سن کر چوچک خود اس کو اپنے گھر بلواتا ہے اور خود ہی اُسے اپنے گھر میں بیٹا بن کر رہنے کی پیشکش کرتا ہے۔ قصے میں ایک نیا اور متحرک کردار ہیر کی نند ”میھاں“ نام کی لڑکی کا ہے۔ یہ سہتی کی بہن ہے لیکن دوسرے قصہ کاروں کے برعکس نہ تو یہ ہیر کی ہمراز ہے اور نہ ہی مراد بلوچ یا راموں ہانھن کی محبوبہ، بلکہ اس کا کردار غافل کے قصے میں ایک کنواری لڑکی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ مجموعی طور پر غافل کے قصہ میں ہیر اور رانجھا دونوں کے کردار غیر متحرک نظر آتے۔ قصے کے اختتام پر ہیر اور رانجھے

سرائیکی زبان میں منظوم عشقیہ داستان ”ہیر رانجھا“ کے مؤلف تخلیق کار، ایک جائزہ

کاملاپ دکھایا گیا ہے:

رانجھا گھن گیا ہیر عدالت اچوں کھڑے ڈاڈے شرمندے ہوئے نی
گواہی قاضی دی درست نہ پک سکی بے ایمان جڈاندے ہوئے نی (۳۴)

۶۔ سو بھاشجاع آبادی (۱۸۰۱ء۔ ۱۸۷۰ء)

ڈاکٹر سجاد حیدر پرویز کے مطابق:

”سو بھاشتی واہی تاجے والا نذ شجاع آباد میں فاضل خان بلوچ کے گھر پیدا ہوا۔ شوکت مغل
نے ”ملتان دیاں واراں“ میں سو بھے خاں کی ایک ہیر کا ذکر کیا ہے۔ مولانا نور احمد خاں فرید
نے بھی کسی زمانے میں سو بھے کی ہیر کا ذکر اپنے ایک مضمون میں کیا تھا (۳۵)

ڈسٹرکٹ گزٹینئر ملتان کے مطابق:

”سو بھے خاں ۱۸۱۰ء میں پیدا ہوا اور ۱۸۷۰ء کو فوت ہوا“ (۳۶)

حنیف چوہدری کے مطابق:

”سو بھے خاں کی شاعری کا ذکر سب سے پہلے ملتان ڈسٹرکٹ گزٹینئر ۲-۱۹۰۱ء میں آیا جبکہ
تاریخ کے کسی ورقے میں ان کا نام نہیں ملتا“ (۳۷)

ماسٹر سکھ رام شجاع آبادی اور مولانا نور احمد خاں فریدی دونوں اس بات متفق ہیں کہ سو بھے خاں نے قصہ
ہیر رانجھا اپنے دوست میراں شاہ کی فرمائش پر تحریر کیا۔ ماسٹر سکھ رام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پہلے میراں شاہ نے
سو بھے خاں کو ہیر رانجھا کی داستان سنائی اور پھر سو بھے خاں نے اس کو نظم کا جامہ پہنایا۔ سو بھے خاں کا قصہ ہیر رانجھا
تقریباً ۱۱۱۸ اشعار مشتمل ہے جبکہ نور احمد خاں فریدی کے مطابق اس کے کل ۶۲ بند ہیں۔ سو بھے خاں کی ہیر کے ۱۹۵
شعار ماسٹر سکھ رام شجاع آبادی نے اپنے ایک مضمون کے نیچے درج کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ اشعار ڈی
آئی جگت رام سے زبانی سن کر تحریر کیے ہیں۔ (۳۸)

سو بھے خاں کی ہیر اصل شکل میں محفوظ نہیں ملتی اس لیے اس میں قافیہ ردیف کی خامیاں بھی موجود ملتی
ہیں۔ شاعر ہیر کے سراپے کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

پنی آن بلوغت کوں چا گرد نگاہاں بھالے ٹورائے بھل مور و نجن جیندے سردے بشیر کالے
نین جیندے کھڑ ویسن کرن بھج مارن ڈنگ اُہالے پینگھاں جھوٹے ہیر سونہاری گل سہیلیاں نالے (۳۹)
سو بھے خاں نے اپنے قصے کو بیان کرتے وقت زمینداروں کے ہاں کمیوں، کاسیوں، قسم قسم کے کھانوں،
شادی بیاہ کی رسموں، جہیز کے سامان، جوگیوں کے لباس، سانپوں اور گھوڑوں کی قسموں اور شادی کی دوسری ثقافتی
راویات کو بہت ہنرمندی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

۷۔ شیخ امیر مجروح (۱۹۱۶ء۔ ۱۹۹۸ء)

شیخ امیر مجروح شیخ دوست محمد کے گھر گرہ کہنہ شیر و ڈیرہ اسماعیل خان میں ۱۹۱۶ء کو پیدا ہوئے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی شاعرانہ ذوق کے حامل تھے۔ قصہ ”ہیر و رانجھا“ کے علاوہ قصہ ”سسی پنوں“، ”سوہنی مہینوال“ اور ”شاہ بہرام“ بھی آپ کی یاد گاریں ہیں۔ آپ نے اپنا قصہ ”ہیر و رانجھا“ ہیر وارث سے متاثر ہو کر دوستوں کی فرمائش پر نظم کیا۔ وہ خود لکھتے ہیں:

وارث شاہ دا اے عاجز ہے بہوں منت مرہون مشتاق رضا دا نقش قدم ہے فخر میں مخزون
پیر پٹھان دے فیض نزلے جڑے مصرعے گونا گوں دوستاں دی فرمائش اُتے کھلے دُرک درون (۴۰)

مجروح نے قصہ ”ہیر و رانجھا“ اپنے روحانی استاد شیخ محمد فاضل مشتاق رضا کی نظموں ”سوہنی مہینوال“ اور ”مرزا صاحبان“ کی بحر میں قلمبند کیا۔ انہوں نے یہ قصہ ۱۴ جنوری ۱۹۵۰ء کو لکھنا شروع کیا اور ۳ جون ۱۹۵۰ء کو مکمل کیا۔ ۱۹۹۵ء میں اس قصہ کو پہلی دفعہ بلوچ برادرز اینڈ بک سیلرز بازار کلاں ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے کتابی شکل میں شائع کیا۔ مجروح نے اپنا قصہ کل ۱۳۰ اردو عنوانات کے تحت دو مختلف بحروں میں منظوم کیا۔ قصے کی زبان سادہ اور رواں ہے۔ کہیں کہیں ٹھٹھہ سرائیکی الفاظ اور محاوروں کا استعمال بھی ملتا ہے:

مجروح دل دھڑکدا ہیر دا اندرون چھڑا اے اسرارے

ہے ہمیشہ دھوں پہلوں دکھا، بکھدے پھیرا نگارے (۴۱)

قصے میں رانجھے کے باپ کا نام موجو جبکہ موجو کے ۸ بیٹوں اور دو بیٹیوں میں سے رانجھا کو سب سے چھوٹا اور لاڈلہ بیٹا بتایا گیا ہے۔ ہیر کے والد کا نام چوچک، ماں کا نام ملکی جبکہ اس کے خاندان کا نام سیدا کھیڑا بتایا گیا ہے۔ قصے میں دوسرے قصہ کاروں کے برعکس چوچک کے ہاں ہیر کی پیدائش اور ناز و ادا کے ساتھ پل کر جوان ہونے جیسے واقعات کو قصہ میں شامل نہیں کیا۔ مجروح کے قصے میں ایک نیا کردار مٹھی نوانی“ کا ہے، جو خفی دلوں پر مرہم رکھنے کا ہنر خوب جانتی ہے۔ جب کیدو کے شکایت لگانے پر چوچک رانجھے کو نوکری سے فارغ کر دیتا ہے تو اس کے ہیر سے میل ملاقات کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور وہ بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ آخر کار اس کی یہ مشکل اسی مٹھی نوانی کے ذریعے ہی حل ہو پاتی ہے:

مٹھی نوانی ہئی وچ جھنگ سیال دے رہندی گھر سیالاں ساریاں دے او اکثر ویندی آندی

رانجھے دی ہائی پہلوں واقف ہمرازا وقت پیاں دی پیچ و پیچ آڑی ہوئی گنڈھ کوں اٹکل نال چھرواندی

کہاں دے کم اوں راس کیتے ٹٹیاں آساں اوور لاندی گذر اوقات ہئی آوندی سوکھی آمد خوب کماندی

مجروح رانجھے دی وچ آکھیا پٹی پدھ میڈے زخماں دی وں لگدے تائیں خدمت کر سہل شان تیڈی جھٹھاندی (۴۲)

قصہ میں بیان ہوئے واقعات کے مطابق جب رانجھا ہیر کو رنگ پور سے اپنے ساتھ فرار کر کے چوچک کے گھر جھنگ پہنچتا ہے تو کیدو کے مشورے سے رانجھا کو بارات لانے کی غرض سے تخت ہزارہ بھیج کر پیچھے دھوکے کے ساتھ ہیر کو زہر دے دیا جاتا ہے۔ مجروح کے قصے میں ہیر اور رانجھا دونوں کے کردار زیادہ طاقتور اور متحرک نظر نہیں آتے۔ مجموعی

سرائیکی زبان میں منظوم عشقیہ داستان ”ہیرا رنجھا“ کے مؤلف تخلیق کار، ایک جائزہ

طور پر کہا جاسکتا ہے کہ سرائیکی زبان میں داستان ہیرا رنجھا کے قصوں کی ایک معقول تعداد موجود ہے۔ جن میں سے مذکورہ قصہ نویسوں نے کہیں تھوڑے تو کہیں زیادہ واقعاتی فرق کے ساتھ اپنی کہانیوں کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ کسی قصہ گو کے ہاں مقامات کا فرق نظر آتا ہے تو کہیں کرداروں کے ناموں میں اختلاف ملتا ہے۔ لیکن ایک آدھ قصہ کار کو چھوڑ کر باقی قصہ کاروں کا سطح نظر ایک ہی ہے۔ تمام قصہ کاروں کے ہاں کرداروں کی زبان اور طرز عمل بھی اپنی تہذیب سے مکمل طور پر ہم آہنگ اور فطری معلوم ہوتا ہے۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ پرویز، ڈاکٹر سجاد حیدر، مختصر تاریخ زبان و ادب سرائیکی، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۰۹ء، ص ۲۹۰
- ۲۔ بیدی، بابا گنگ سنگھ (مقدمہ)، ہیر دمودر، بحوالہ ہیر دمودر داسر سری مطالعہ، از محمد اصغر خاں سیال، مقالہ برائے ایم اے (سرائیکی)، شعبہ سرائیکی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور، سیشن ۹۱-۱۹۸۹ء، ص: ۱۱
- ۳۔ محمد آصف خاں (مرتب)، ہیر دمودر، لاہور، پاکستان پنجابی ادبی بورڈ، ۱۹۸۶ء، ص: ۳۵
- ۴۔ سلطان پور کی بستی جھنگ سے شاہ جیونا روڈ پر چھ کوس کے فاصلے پر اب بھی موجود ہے۔ جہاں قیام پاکستان سے قبل گکھائی ذات کے ہندو آباد تھے۔ محمد آصف خاں (مقدمہ) ہیر دمودر، لاہور، پاکستان پنجابی ادبی بورڈ، ۱۹۸۶ء، ص: ۱۳
- ۵۔ دیوانہ، ڈاکٹر موہن سنگھ، بحوالہ تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند، جلد ۱۳، لاہور، پنجاب یونیورسٹی، ۱۹۷۱ء، ص: ۲۶۵
- ۶۔ طاہر تونسوی، ڈاکٹر، (مرتب) چراغ اعوان دی ہیر (طبع دوم)، ملتان، سرائیکی ادبی بورڈ، ۲۰۰۲ء، ص: ۱۴
- ۷۔ عذرا وقار، وارث شاہ عہد اور شاعری، اسلام آباد، قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت، سنٹر آف ایلیمینس، قائد اعظم یونیورسٹی، ۲۰۰۷ء، ص: ۳۷
- ۸۔ سیال، محمد اصغر خاں، مقالہ برائے ایم اے (سرائیکی)، شعبہ سرائیکی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور، سیشن ۹۱-۱۹۸۹ء، ص: ۲۲
- ۹۔ جام پوری، کیفی، سرائیکی شاعری، ملتان، بزم ثقافت، ۱۹۶۹ء، ص: ۲۴۷
- ۱۰۔ کشیہ، مولا بخش، پنجابی شاعری داند کرہ، مکتبہ شیخ دریا، لاہور، ۱۹۶۰ء، ص: ۵۲
- ۱۱۔ قریشی، عبدالغفور، پنجابی ادب دی کہانی، لاہور، عزیز بک ڈپو، ۱۹۷۲ء، ص: ۲۱۸
- ۱۲۔ محمد سرور، پنجابی ادب، بحوالہ سرائیکی شاعری دارالافتاء ڈاکٹر نصر اللہ خاں ناصر، ملتان، سرائیکی ادبی بورڈ، ۲۰۰۷ء، ص: ۳۳۳
- ۱۳۔ سیال، اصغر علی، ہیر دمودر داسر سری مطالعہ، مقالہ برائے ایم اے سرائیکی، بہاولپور، شعبہ سرائیکی، اسلامیہ یونیورسٹی، سیشن ۹۱-۱۹۸۹ء، ص: ۳۷-۳۸
- ۱۴۔ جام پوری، کیفی، سرائیکی شاعری، ملتان، بزم ثقافت، ۱۹۶۹ء، ص: ۱۴۳
- ۱۵۔ اعوان، چراغ، چراغ اعوان دی ہیر (مرتبہ) ڈاکٹر طاہر تونسوی، (طبع دوم)، ملتان، سرائیکی ادبی بورڈ، ۲۰۰۲ء، ص: ۷۲
- ۱۶۔ جام پوری، کیفی، سرائیکی شاعری، ص: ۱۴۳
- ۱۷۔ اعوان، چراغ، چراغ اعوان دی ہیر (مرتبہ) ڈاکٹر طاہر تونسوی، مذکور، ص: ۵۴

- ۱۸۔ ناصر ڈاکٹر نصر اللہ خاں سرائیکی شاعری دارالقلم، ملتان، سرائیکی ادبی بورڈ، ۲۰۰۷ء، ص: ۳۳۶-۳۳۵
- ۱۹۔ اعوان، چراغ، چراغ اعوان دی ہیر (مرتبہ) ڈاکٹر طاہر تونسوی، مذکور، ص: ۵۶
- ۲۰۔ حیدری، میر حسان، سرائیکی ادب (مقالہ) مشمولہ تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند، جلد ۱۴، لاہور، پنجاب یونیورسٹی، ۱۹۷۱ء، ص: ۳۳۲۔
- ۲۱۔ جام پوری، کیفی، سرائیکی شاعری، ص: ۱۵۵
- ۲۲۔ مسکین، نور الدین، مکمل قصہ ہیر رانجھا، مرتبین مولوی فیض بخش، محمد ذوالفقار تاجران کتب ملتان، یونین پرنٹنگ پریس سن۔ن۔ص۔۷
- ۲۳۔ مسکین، نور الدین، مکمل قصہ ہیر رانجھا، ص: ۹
- ۲۴۔ مسکین، نور الدین، مکمل قصہ ہیر رانجھا، ص: ۷۵
- ۲۵۔ حیدری، میر حسان، سرائیکی ادب (مقالہ) مشمولہ تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند، مذکور، ص: ۳۱۸
- ۲۶۔ کلیم، جلال شاہ، قصہ ہیر و رانجھا (قلمی) مذکور، ص: ۱۰
- ۲۷۔ کلیم، جلال شاہ، قصہ ہیر و رانجھا (قلمی)، مذکور، ص: ۲۷-۲۵
- ۲۸۔ پرویز، ڈاکٹر سجاد حیدر مختصر تاریخ زبان و ادب، سرائیکی، ص: ۲۹۶
- ۲۹۔ جام پوری، کیفی، سرائیکی شاعری، ص: ۳۰۸-۳۰۶
- ۳۰۔ بیلوی، اللہ بخش خادم، ہیر رانجھا جدید بطرز سیفل، قلمی نسخہ فوٹو سٹیٹ ملکیہ ڈاکٹر نصر اللہ خاں ناصر بہاؤ پور، ص: ۱
- ۳۱۔ بلوچ، فیض، غافل دی سرائیکی ہیر (مضمون) مشمولہ روزنامہ خبریں (ویب سنگ)، ملتان، ۲۰ دسمبر ۲۰۱۲
- ۳۲۔ غافل، ملک احمد بخش، ہیر سیال غافل عرف سرائیکی ہیر رانجھا، ملتان، قریشی بک ڈپو، ۱۳۳۶ھ، ص: ۹
- ۳۳۔ غافل، ملک احمد بخش، ہیر سیال غافل عرف سرائیکی ہیر رانجھا، مذکور، ص: ۷۹
- ۳۴۔ ایضاً
- ۳۵۔ پرویز، ڈاکٹر سجاد حیدر مختصر تاریخ زبان و ادب سرائیکی، ص: ۲۹۸
- ۳۶۔ ملتان ڈسٹرکٹ گزٹینر، ۲-۱۹۰۱ء، سپرنٹنڈنٹ، گورنمنٹ پرنٹنگ پریس، لاہور، کمشنر آفس، لاہور
- ملتان نمبر ۲-۱۱۱ (۵) ص: ۱۶۲ (انگریزی)
- ۳۷۔ حنیف، چوہدری، ہیر سوئے خاں (مضمون) مشمولہ کھوج، شمارہ نمبر ۲، جنوری تا جون، ۱۹۹۷ء، ص: ۵
- ۳۸۔ حنیف، چوہدری، ہیر سوئے خاں مذکور، ص: ۷، ۶
- ۳۹۔ حنیف، چوہدری، ہیر سوئے خاں مذکور، ص: ۱۰
- ۴۰۔ مجروح، شیخ امیر، قصہ ہیر سیال و میاں رانجھا، ڈیرہ اسماعیل خاں، گول آرٹ پریس، ۱۹۹۵ء، ص: ۷۵
- ۴۱۔ مجروح، شیخ امیر، قصہ ہیر سیال و میاں رانجھا، مذکور، ص: ۵
- ۴۲۔ مجروح، شیخ امیر، قصہ ہیر سیال و میاں رانجھا، مذکور، ص: ۴۶